




HUMSAFAR PLAN

“For queries SMS “PRD” to 9898”

Humsafar

Your Companion in Life

Planning for the well-being of those who rely on us is one of our main responsibilities. The challenges life throws at us become easy to overcome once we know our family is shielded from unforeseen circumstances. With this in mind, how comforting would it be to have a Plan that not only covers you but also provides coverage to your spouse?

EFU Life brings you **Humsafar Plan** - a joint life unit-linked whole-of-life Plan providing coverage to both insured lives together, allowing savings to be accumulated for the family in the event of either spouse's untimely demise.



Salient Features:

- Get both you and your spouse covered at the same time.
- Provide your family with security regardless of the uncertainty life unfolds.
- Benefit from competitive investment allocation.
- Get extra unit allocation from the 6th year onwards.
- Access your savings when you need them.
- Accelerate the build-up of your funds through Fund Acceleration Premiums.
- Participate in higher returns by investing in EFU Life growth funds.
- Add supplementary benefits to tailor the Plan to your needs.

Opportunity for Growth

The premiums of the Plan will be utilised to purchase units in the fund selected by the policyholder.

You have the flexibility to select from one of the following Unit Saving funds based on your risk appetite and investment objectives at the inception of the policy.

EFU Managed Growth Fund - An investment fund with a balanced investment strategy. It aims to achieve reasonable capital growth and steady returns with investment in government securities, carefully selected blue-chip equities and other fixed income securities and cash.

EFU Guaranteed Growth Fund - An investment fund providing steady returns with a guarantee that the bid price of the fund will never fall. It aims to achieve stable growth through investment in short-term debt securities.

EFU Income Growth Fund - An Investment fund providing steady returns. It aims to achieve consistent capital growth with investment in government securities and high quality corporate debt.

Access to your savings

Nobody can predict the future. If your circumstances change and you need cash, your Plan can be encashed for the full bid value of units after the second annual premium has been paid. Please remember that the value in early years is likely to be low since the Plan is designed for long-term needs.

Alternatively, you may just want a small proportion of the capital you have built up. The Plan gives you the facility to make partial withdrawals at any time whilst continuing to make premiums and keeping the Plan in force. This facility is subject to at least PKR 50,000 remaining as Cash Value after such withdrawals. You can also withdraw the Fund Acceleration Premium cash value at any time while the policy is in force.

Fund Acceleration Premiums

This benefit takes into account surplus cash that may be available at any point. Humsafar Plan gives you the flexibility to top-up your savings by depositing your surplus funds as lump-sum premiums. These lump-sum premiums, called "Fund Acceleration Premiums" (FAP) payments can be made at the commencement of any policy anniversary. The FAP payments will increase the Cash Value of your Plan, but will not affect the Sum Assured.



Death Benefit

With Humsafar Plan, both the primary policyholder and the spouse get their lives covered, at the same time. The beneficiary can use the Sum Assured to meet their expenses, etc.

1. On 1st Death, the benefit payable will be the Sum Assured.
2. After the 1st Death, the Surviving Life will have the option of EITHER continuing paying the Regular Premiums OR ceasing paying the Regular Premiums.
 - I. If the Surviving Life continues paying the Regular Premiums, the benefit payable on death will be the Sum Assured plus Total Cash Value.
 - II. If the Surviving Life ceases paying the Regular Premiums, the policy will continue for a term of next 10 years (subject to the maximum age of 70). The benefit payable on death will be the sum of Sum Assured and Total Cash Value.
3. In case both Lives Assured die at the same time, the benefit payable on death will be the sum of Sum Assured and Total Cash Value.

Inflation Protection

This option gives you the security and peace of mind of knowing that the benefits provided by your Plan will be updated to hedge against inflation every year regardless of your health.

Once you select this option, the premium will increase every year by 5% of the prior year's premium, thus channelling this increase in premium to boost your accumulation of capital.



Additional benefits

Various additional benefits are available which may be attached to the Basic Plan to enhance your coverage level.

Additional Term Assurance

The Plan has a guaranteed level of life cover which depends on the effective age at commencement of the Plan. However, in many circumstances, such as having many family dependents or young children, you may feel that the Basic Sum Assured would not provide sufficient financial protection in the unfortunate event of your death. The Additional Term Assurance Benefit is payable upon first death of any one of the Lives Assured.

Accidental Death Benefit

This additional benefit pays out an additional lump-sum amount in the case of the first accidental death of either of the Lives Assured.

Family Income Benefit

In addition to the lump sum payable on death, your dependents may also require a regular monthly income to maintain a decent lifestyle. This additional benefit will provide a monthly income payable for the remaining term of the Plan in case of the death of either of the Lives Assured.

Important Details

Eligibility

The minimum and maximum ages at the entry of both lives assured range from 20 to 50 years next birthday respectively.

Term

This is a whole-of-life Plan. It provides you with the benefits of protection and investment throughout your life. This open-ended nature of the Plan ensures you can withdraw your funds at any point in time, based on your needs and circumstances.

Premium

The minimum regular premium for Basic Plan is PKR 50,000 per annum.

For Fund Acceleration Premiums payments - minimum premium is PKR 50,000 per payment.

Premium Payment Term (on 1st death)

On the 1st death, the following options for premium payment will be provided to the surviving Life:

1. Premiums for the next 10 years will be waived after which Plan is terminated. (by default)
2. Surviving life can opt to pay premiums to continue to accumulate savings.

Unit Allocation

The proportion of Basic Plan regular premium allocated to investment is as follows:

POLICY YEAR	% ALLOCATION
1	30%
2	80%
3	90%
4 and 5	100%
6 - 10	103%
11 and onwards	105%

Charges

The following charges apply to the Plan:

- Fund Management Charge: 1.5% of the fund value per annum
- Bid/Offer spread: 5% of the (net) contribution
- Administration Charge: PKR 960 per annum.

An age-based mortality charge applies for the life insurance risk each year and is dependent on the sum at risk.

Encashment

The Humsafar Plan is designed as a long-term contract with the initial setting-up charges being recovered over a period of time. Therefore, if the Plan is terminated after only one annual premium, the Cash Value acquired during the first year of the contract will be used to offset the setting-up costs and no amount will be payable. However, after two annual premiums have been paid, you can totally (or partially) cash-in the Plan at any time for the full bid value of units, without any surrender penalty.

Sum Assured

This is the guaranteed amount payable on death. The Sum Assured may be selected from a range depending on the age at entry. The Sum Assured is determined as the Basic annual premium times the Protection Multiple as seen in the following table:

EFFECTIVE AGE	PROTECTION MULTIPLE
18 - 35	5 to 45
36 - 40	5 to 30
41 - 45	5 to 15
46- 50	5 to 10

Automatic Non-Forfeiture Option

If premium payments are stopped due to any reason after paying two full years' premiums, the Company will keep the Basic policy in force for a period of one year from the date of first unpaid premium. During this one year period, the Company will cancel enough units to pay for the cost of maintaining the cover and for administration. At the end of this period, if the policy still has a cash value, it will be converted to "Paid-up" policy. In such a case, no further premiums would be payable and the amount payable on death or maturity will be equal to the Cash Value of the policy. At each policy anniversary, the Company will cancel enough units to pay for the administration charge of maintaining the policy.



Disclaimer:

- A description of how the contract works are given in the policy Provisions and Conditions.
- Please contact our Head Office or Sales Consultant for a personalised illustration of benefits.
- This brochure gives a general outline of 'Humsafar Plan'. The contract will be governed by the detailed conditions set out in the policy Provisions and Conditions.
- All investments made in the selected Fund are subject to market risks. The investment risk of the selected fund will be borne by the policyholder.

EFU LIFE ASSURANCE LTD.

EFU Life House, Plot No. 112, 8th East Street, Phase I, DHA, Karachi, Pakistan
Fax: (021) 3453-7519 Email: csd@efulife.com



ہم سفر پلان

”سوالات کے لئے پی آر ڈی 9898 پر ایس ایم کریں“

ہم سفر

زندگی میں آپ کا ساتھی

ان سب کی بہتری کیلئے جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرنا ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ زندگی میں ہمیں جن مصائب کا سامنا ہوتا ہے ان پر قابو پانا اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے خاندان کو غیر متوقع حالات کی صورت میں ایک تحفظ حاصل ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ امر کتنا اطمینان بخش لگتا ہے کہ ایسا کوئی پلان ہو جو نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی / کے شریک حیات کو بھی تحفظ میسر کرے؟

ای ایف یولائف آپ کیلئے پیش کرتا ہے ہم سفر پلان۔ یونٹ سے منسلک ایک مشترکہ تاحیات پلان جو بیک وقت بیمہ شدہ دونوں شرکا کو تحفظ فراہم کرتا ہے، جس میں کسی ایک شریک حیات کی بے وقت وفات کی صورت میں اہل خانہ کیلئے بچتوں کو جمع ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔

اہم خصوصیات:

- ایک ہی وقت میں اپنی اور اپنی / اپنے شریک حیات کی زندگی کو تحفظ حاصل کیجئے،
- ان غیر یقینی واقعات سے قطع نظر جو زندگی میں پیش آ سکتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو تحفظ فراہم کیجئے،
- فنڈ ایکسچینج پر بیمہ کے ذریعے اپنے سرمائے کو فروغ دیجئے،
- ای ایف یوگر وٹھرفنڈ سے ملنے والے فوائد میں شامل ہو جائیے،
- بہترین یونٹ الیوکیشن سے فائدہ اٹھائیے،
- چھٹے سال سے اور بعد ازاں مختص کئے گئے اضافی یونٹ حاصل کیجئے،
- حسب ضرورت اپنی بچتوں تک رسائی حاصل کیجئے،
- منصوبے کو اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کیلئے اضافی فوائد شامل کیجئے،

سرمائے کی نشوونما کیلئے مواقع:

پلان میں کی جانے والی ادائیگیوں کو، پالیسی ہولڈر کے منتخب کردہ فنڈ میں یونٹس کی خریداری کیلئے استعمال میں لایا جائے گا۔ پالیسی کے آغاز پر آپ کو درج ذیل یونٹ سیوکنگز فنڈ سے اپنے خطرے کی حد اور سرمائے کے مقصد کی بنیاد پر کسی ایک کا انتخاب کرنے کی سہولت حاصل ہے:

ای ایف پی مینیجڈ گروتھ فنڈ۔ متوازن سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے ساتھ سرمایہ کاری کا ایک فنڈ ہے۔ اس کا ہدف حکومتی مالیاتی اداروں میں محتاط طریقے سے منتخب کردہ بلوچپ سیکورٹیز میں اور مختلف قلم سیکورٹیز اور نقد میں سرمایہ کاری کے ذریعے سرمائے میں مناسب فروغ اور مستحکم آمدنی کا حصول ہے۔

ای ایف پی گرانڈ گروتھ فنڈ۔ مستحکم آمدنی فراہم کرنے والا سرمایہ کاری فنڈ جس میں یہ ضمانت دی جاتی ہے کہ فنڈ کی بولی قیمت (بڈ پرائس) کبھی ایک مخصوص فیصد سے نیچے نہیں آئے گی۔ اس کا ہدف قلیل المیعاد قرضہ لینے والے مالیاتی اداروں میں سرمایہ کاری کے ذریعے سرمایہ کی مستحکم نشوونما ہے۔

انکم گروتھ فنڈ۔ ایک سرمایہ کاری فنڈ جس کا مقصد سیکورٹیز میں سرمایہ کاری کر کے مستحکم بڑھوتری حاصل کرنا ہے۔ اس کا ہدف حکومتی مالیاتی اداروں اور قرضہ دینے والی اعلیٰ معیاری مالیاتی اداروں میں سرمایہ کاری کے ذریعے سرمایہ کی مستحکم نشوونما ہے۔

بچتوں تک رسائی:

مستقبل کے بارے میں کوئی بھی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے مالی حالات تبدیل ہوں اور آپ کو نقد رقم کی ضرورت پڑ جائے تو آپ پلان کے دوسرے سالانہ پریمیم کی ادائیگی کے بعد اپنے پلان کی نقد مالیت کو بڈ پرائس (قیمت فروخت) پر رقم کی شکل میں حاصل کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی یہ یاد رکھئے کہ چونکہ پلان طویل المیعاد سرمائے کے فوائد کیلئے تشکیل دیا گیا ہے لہذا ابتدائی سالوں میں اس کی قدر کم ہونے کا امکان ہے۔

بصورت دیگر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنے پلان میں موجود سرمائے کا ایک مختصر حصہ لینا چاہتے ہوں۔ یہ پلان آپ کو کسی بھی وقت نقد مالیت کی جزوی واپسی کی سہولت فراہم کرتا ہے اور اسکے ساتھ ساتھ پلان کو قابل عمل رکھنے کیلئے پریمیم کی ادائیگی کو بھی جاری رکھا جاتا ہے، بشرطیکہ جزوی دستبرداری کے بعد پلان میں کم از کم 50,000 روپے نقد قدر کے طور پر موجود رہیں۔ پالیسی کے نافذ العمل رہتے ہوئے آپ کسی بھی وقت فنڈ ایکسچینج پریمیم (اضافی رقم کا پریمیم) کی نقد قدر بھی واپس لے سکتے ہیں۔

اضافی اختیاری پریمیم (فنڈ ایکسچینج پریمیم):

یہ سہولت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ کے پاس زندگی کے کسی موڑ پر ایک اضافی رقم موجود ہو سکتی ہے۔ ہم سفر پلان ایک باقاعدہ پریمیم پلان ہے لیکن اسکے ساتھ ساتھ یہ آپ کو پلان میں اپنی اضافی رقم کو یکدم جمع کر کر آپ کی بچت کو فروغ دینے کی سہولت اور موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ یکدم اضافی رقم جن کو فنڈ ایکسچینج پریمیم کا نام دیا گیا ہے جو پالیسی کے آغاز پر یا پالیسی کے دوران کسی بھی وقت جمع کروائی جاسکتی ہیں۔ فنڈ ایکسچینج پریمیم کی ادائیگیاں آپ کے پلان کی نقد مالیت کو بڑھائیں گی مگر ان کا اثر پلان کے زربہ پر نہیں پڑے گا۔



ڈیٹھ بینیفٹ (وفات کی صورت میں فوائد):

ہم سفر پلان کے ذریعے، ابتدائی پالیسی کا حامل اور شریک حیات دونوں کو بیک وقت، اپنی زندگی کا بیمہ تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ بینیفٹری سم اشورڈ کو اپنے اخراجات وغیرہ پورا کرنے کیلئے استعمال کر سکتا ہے۔

۱۔ بیمہ شدہ فریقین میں سے کسی ایک فریق کی پہلے وفات کی صورت میں قابل ادائیگی فائدہ سم اشورڈ ہوگا۔

۲۔ بیمہ شدہ فریقین میں سے کسی ایک فریق کی پہلے وفات کے بعد حیات بیمہ شدہ فریق کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ آیا باقاعدہ پرمیئمز کی ادائیگی جاری رکھے یا ان کی ادائیگی منسوخ کر دے۔

الف) اگر حیات بیمہ شدہ فرد باقاعدہ پرمیئمز کی ادائیگی جاری رکھتا ہے تو وفات کی صورت میں قابل ادائیگی فائدہ:
• سم اشورڈ پلس گل نقد مالیت ہوگا۔

ب) اگر حیات بیمہ شدہ باقاعدہ پرمیئمز کی ادائیگی منسوخ کرتا ہے تو پالیسی اگلے دس سال تک جاری رہے گی (زیادہ سے زیادہ 70 سال کی عمر سے مشروط)
تو وفات کی صورت میں قابل ادائیگی فائدہ:
• سم اشورڈ پلس گل نقد مالیت ہوگا۔

۳۔ اگر خدا نخواستہ، دونوں بیمہ شدہ افراد ایک ہی وقت میں وفات پا جاتے ہیں تو قابل ادائیگی فائدہ:
• سم اشورڈ پلس گل نقد مالیت ہوگا۔

افراط زر سے تحفظ

اس اختیار کے ذریعے آپ کو تحفظ اور ذہنی اطمینان ہوتا ہے کہ آپ کے پلان میں حاصل ہونے والے فوائد کو آپکی صحت سے قطع نظر افراط زر کے استحکام کیلئے ہر سال خود کارانہ طور پر بڑھادیا جاتا ہے۔

اس اختیار کے انتخاب کے ذریعے ہر سال آپکے ہر پرمیئم کو سابقہ سال کے پرمیئم سے 5 فیصد بڑھادیا جائیگا جس سے یہ اضافی پرمیئم آپکے سرمائے کو فروغ دینے میں مدد دیگا۔



اضافی فوائد:

اسکے علاوہ اور بھی بہت سے اضافی فوائد آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں جو آپ کی پالیسی کے تحفظ کے درجے کو بڑھانے کیلئے بنیادی پلان کے ساتھ منسلک کئے جاسکتے ہیں۔

ایڈیشنل ٹرم اشورنس:

آپ کے پلان میں ایک ضمانتی رقم زیر بیمہ کی شکل میں موجود ہوتی ہے جو پلان کے آغاز پر عمر پر منحصر ہوتی ہے۔ البتہ زندگی کے چند حالات جیسے آپ کے زیر سرپرست افراد کی تعداد زیادہ ہو یا آپ کو محسوس ہو کہ اسم اشورڈ کی رقم مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کیلئے کم ہو سکتی ہے اور آپ کے زیر کفالت افراد کو مناسب مالی تحفظ فراہم نہیں کر سکتی۔ پالیسی ہولڈر کی ناگہانی وفات کی صورت میں اس لئے ایڈیشنل ٹرم اشورنس کے تحت، کسی بھی فریق کی پہلی وفات کی صورت میں، آپ کو اضافی رقم حاصل ہو سکتی ہے۔

ایکسٹینڈڈ بیٹیفٹس:

اگر دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کو حادثاتی وفات کا سامنا ہوتا ہے تو اس حادثاتی وفات کے فائدے کے تحت ایک اضافی یکمشت رقم ادا کی جاتی ہے۔

فیملی اکم بینیفٹ:

وفات کی صورت میں یکمشت قابل ادائیگی رقم کے علاوہ، آپ کے زیر سرپرست اہل خانہ کو ایک عمدہ طرز زندگی برقرار رکھنے کیلئے ایک مستقل ماہانہ آمدن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ اضافی فائدہ کسی ایک فریق کی وفات کی صورت میں، منصوبے کی بقایا مدت کیلئے ایک ماہانہ آمدن فراہم کرے گا۔

ضروری تفصیلات:

اہلیت:

منصوبے میں شمولیت کے وقت کم از کم عمر 20 سال جبکہ زیادہ سے زیادہ عمر 50 سال (اگلی سالگرہ پر) ہے۔

مدت:

یہ ایک کل حیات پر مبنی پلان ہے۔ یہ آپ کو تاحیات تحفظ اور سرمایہ کاری کے فوائد مہیا کرتا ہے۔ پلان کی مختلف پابندیوں اور حدود سے مزید نوعیت اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ آپ کو کسی بھی وقت اپنی ضروریات اور حالات کے مطابق اپنے فنڈز نکالنے کی سہولت حاصل ہے۔

پریمیم:

بنیادی منصوبے میں کم از کم باقاعدہ پریمیم 50,000 روپے سالانہ ہے۔

اضافی اختیاری پریمیم (فنڈ ایکسلیمریشن پریمیم) کی ادائیگیوں کیلئے کم از کم پریمیم 50,000 روپے ہے۔

پریمیم کی ادائیگی کی مدت (فریق اول کی وفات پر):

فریق اول کی وفات پر، حیات فریق کو پریمیم کی ادائیگی کے لئے درج ذیل اختیارات فراہم کئے جائیں گے:

- ۱۔ اگلے دس سال کیلئے پریمیم کی چھوٹ حاصل ہوگی جس کے بعد پلان منسوخ کر دیا جائے گا (طے شدہ)۔
- ۲۔ حیات فریق بچت میں اضافے کیلئے پریمیمز کی ادائیگی کا انتخاب کر سکتا ہے۔

یونٹ کی تقسیم:

بنیادی پریمیم کا سرمائے کیلئے مختص کئے جانے والا تناسب درج ذیل ہے:

یونٹ الیکیشن	سال
30%	1
80%	2
90%	3
100%	4 سے 5 سال
103%	6 سے 10 سال
105%	11 سال اور اس سے زائد

اخراجات:

منصوبے پر درج ذیل اخراجات کا اطلاق ہوتا ہے:

- انویسٹمنٹ مینجمنٹ چارجز: فنڈ کی قدر 1.5 کا فیصد سالانہ؛
 - بڈ آفر اسپرڈ: (اصل) پریمیم کا 5 فیصد
 - ایڈمنسٹریشن چارجز: 960 روپے سالانہ
- ہر سال عمر پر مشتمل، بیمہ حیات کے خطرے کے امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے، مورٹلیٹی چارج لاگو ہوتا ہے جو سم ایٹ رسک کے تحت حاصل کیا جاتا ہے۔

انکیشمنٹ:

ہم سفر پلان ایک طویل المیعاد معاہدے کے طور پر تشکیل دیا گیا ہے جس میں منصوبے کے ابتدائی انتظامی اخراجات وقت کے ساتھ ساتھ وصول کئے جاتے ہیں چنانچہ اگر منصوبہ صرف ایک سال کے پریمیم کی ادائیگی کے بعد ہی منسوخ کر دیا جائے تو معاہدے کے پہلے سال میں ادا کی گئی نقد قدر دیگر اخراجات کی مد میں استعمال کر لی جائے گی اور کوئی رقم قابل ادائیگی نہیں ہوگی۔ البتہ اگر دو پریمیم ادا کر دئے گئے ہوں تو آپ منصوبے میں موجود، یونٹس کی بولی قیمت (بڈ پرائس) کے حساب سے، کسی بھی وقت، بغیر کسی دستبرداری تاوان کے بھل (یا جزوی) نقد رقم لے سکتے ہیں۔

سم اشورڈ:

وفات کی صورت میں یہ گاؤنڈیڈ رقم ادا کی جائیگی۔ زریبہ کا انتخاب پلان کے آغاز پر عمر کی مناسبت سے مقرر شدہ کیا جاسکتا ہے۔ زریبہ کا تعین بنیادی پریمیم اور پروٹیکشن ملٹل کے مطابق نکالا جاتا ہے۔ پروٹیکشن کی حد مندرجہ ذیل جدول سے منتخب کیا جاسکتا ہے:

پروٹیکشن ملٹل	عمر
45 سے 5	18 تا 35 سال
30 سے 5	36 تا 40 سال
15 سے 5	41 تا 49 سال
10 سے 5	46 تا 50 سال

آٹو بیٹک نان فار فیر آپشن

اگر دو سال تک پورے پریمیم ادا کر دیئے گئے ہوں اور پھر کسی وجہ سے انکی ادائیگی رک جائے تو کمپنی غیر ادا شدہ پہلے پریمیم کی تاریخ سے ایک سال کے عرصے کیلئے بنیادی پالیسی کو قائم رکھے گی۔ اس ایک سال کے دوران کمپنی انتظامی اور تحفظ کے اخراجات کی ادائیگی کیلئے کچھ یونٹس منہا کرے گی۔ اس عرصے کے اختتام پر اگر پالیسی کی نقد مالیت موجود ہو تو وہ ”پیڈ آپ“ میں تبدیل کر دی جائیگی۔ اس صورت میں مزید کوئی پریمیم قابل ادائیگی نہیں ہوئے اور وفات پر یا پالیسی کے اختتام پر قابل ادائیگی رقم پالیسی کی نقد مالیت کے برابر ہوگی۔ ہر پالیسی سال کے اختتام پر کمپنی پالیسی کو جاری رکھنے کے انتظامی خرچ کی ادائیگی کیلئے کچھ یونٹس منہا کرے گی۔



انتباہ

- یہ معاہدہ کس طرز پر کام کرتا ہے اس کی تفصیل پالیسی کے شرائط و ضوابط میں پیش کی گئی ہے۔
- فوائدی ذاتی تشریح کیلئے براہ مہربانی ہمارے ہیڈ آفس یا سیلر کنسلٹنٹ سے رابطہ کیجئے۔
- یہ کتابچہ ’ہمسفر پلان‘ کی خصوصیات اور فوائدی ایک عمومی صورت حال پیش کرتا ہے۔ معاہدے پر پالیسی کے شرائط و ضوابط میں پیش کی گئی تفصیلی شرائط کے مطابق عمل درآمد ہوگا۔
- منتخب شدہ فنڈ میں کی جانے والی تمام سرمایہ کاریاں مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے مشروط ہیں۔ منتخب شدہ فنڈ میں سرمایہ کاری سے ممکن خطرہ پالیسی حامل کے ذمے ہوگا۔

ای ایف یولائف ایشورنس لمیٹڈ

ای ایف یولائف پلاٹ نمبر 112، 8th اسٹریٹ، فیرون، ڈی ایچ اے، کراچی، پاکستان۔

فیکس: 3453-7519 (021) ای میل: csd@efulife.com